



عائشہ! اٹھو اور وتر پڑھو

ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ رات کو نماز پڑھتے اور وہ ان کے سامنے لیٹی ہوتیں جب وتر باقی رہ جاتی، تو آپ ﷺ انہیں بھی جگا دیتے اور وہ اٹھ کر وتر پڑھتیں ایک اور روایت میں ہے کہ جب وتر باقی رہ جاتی، تو آپ ﷺ فرماتے: ”اے عائشہ! اٹھو اور وتر پڑھو“
[صحیح] [متفق علیہ]

حدیث کا مفہوم: نبی ﷺ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھیں صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے: ”نبی ﷺ رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلہ کے مابین ایسے پڑی ہوتی، جیسے جنازہ پڑا ہوتا ہے“ جب نبی ﷺ نماز تہجد سے فارغ ہو جاتے، تو وتر کی نماز شروع کرنے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جگا دیتے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب وتر باقی رہ جاتی، تو آپ ﷺ فرماتے: اے عائشہ! اٹھو اور وتر پڑھو ابوداؤد کی روایت میں ہے: ”یہاں تک کہ جب آپ ﷺ وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے، تو انہیں جگا دیتے اور وہ وتر پڑھتیں“ یعنی آپ ﷺ رات کے ابتدائی حصے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ رکھتے اور انہیں نہیں جگاتے تھے یہاں تک کہ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو جاتے اور صرف وتر باقی رہ جاتی، تو انہیں جگا دیتے؛ تاکہ وہ اپنی وتر پڑھ لیں اور وہ اٹھنے کے فوراً بعد وتر پڑھا کرتی تھیں، اس اندیشہ کے پیش نظر کہ میں ان پر نیند کی سستی غالب نہ آجائے اور تاخیر کی صورت میں کہیں یہ چھوٹ نہ جائے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3565>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

